



سوال

(97) میت کو گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ہاں میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ [1] علماء رحمہم اللہ کا اس حدیث کے مضموم کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا اس سے مراد کافر ہے اور بعض نے کہا اس سے مراد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کو اپنی موت پر رونے کی وصیت کر جائے اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ ہے جسے یہ معلوم ہو کہ اس کے گھر والے اس کی وفات کے بعد روئیں گے اور وہ انہیں منع کر کے جائے، کیونکہ اس کی کا موشی گویا اس کی رضامندی ہے اور جو شخص کسی برائی پر راضی ہو وہ لیسے ہی ہے جیسے گویا خود اسے کر رہا ہو۔ اس حدیث کے مضموم کے بارے میں یہ تین اقوال ہیں لیکن یہ تینوں ظاہر حدیث کے مخالف ہیں، کیونکہ حدیث میں ان میں سے کوئی بات مذکور نہیں، لہذا حدیث کو ظاہر پر محمول کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے لیکن اس عذاب سے مراد سزا نہیں ہے، کیونکہ اس نے گناہ نہیں کیا کہ اسے اس کی سزا دی جائے بلکہ اس عذاب سے مراد رونے کی وجہ سے دکھ اور تکلیف ہے۔ اور دکھ تکلیف کے بارے میں یہ ضروری نہیں کہ سزا ہی ہو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے بارے میں فرمایا ہے:

(قطعة من العذاب) (صحیح البخاری العمرۃ باب السفر قطعة من العذاب ج: 1804)

”وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔“

حالانکہ سفر سزا ہے نہ عذاب لیکن غم و فکر اور قلق و اضطراب ضرور ہے۔ رونے کی وجہ سے میت کے لیے قبر میں عذاب بھی اسی قسم کا ہے کہ اس سے اسے غم و فکر اور قلق و اضطراب ہوتا ہے اگرچہ یہ اس کے اپنے کسی گناہ کی سزا نہیں ہے۔

[1] صحیح بخاری، الجنائز، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذب المیت لِح، حدیث: 1286، 1287 و صحیح مسلم، الجنائز، باب المیت یعذب بکاء اہلہ علیہ،



هذا ما عندي والتدأ علم بالصواب

فتاوى اسلاميه

كتاب الجنائز: ج 2 صفحہ 94

محدث فتوى